



سوال

(218) حالات کی مجبوری کی وجہ سے بینکوں میں ملازمت کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جو شخص حالات کی مجبوری کی وجہ سے سعودی عرب کے مقامی بینکوں مثلاً "البنک الاہلی التجاری" بنک الریاض، بنک البجیرة، البنک العربی الوطنی، شؤکہ الرامحی للصرافۃ والتجارۃ، مکتب الکلکی للصرافۃ، البنک السعودی الامریکی "وغیرہ میں کام کرے اس کے بارہ میں کیا حکم ہے، یاد رہے ان بینکوں میں کھاتے داروں کے لئے سیونگ کھاتے بھی ہیں لیکن ملازمت کرنے والے کا کام تو صرف لکھنا پڑھنا ہوتا ہے مثلاً وہ تو اکاؤنٹنٹ یا مینیجر یا جنرل مینیجر کے طور پر یا اس طرح کے دیگر انتظامی عہدوں پر کام کرتا ہے، ان بینکوں میں کام کرنے کے لئے کئی امور باعث کشش ہیں مثلاً ایک تو یہ کہ یہ دس ہزار ریال یا اس سے زیادہ تنخواہ، رہائش کے لئے کرایہ اور ہر سال کے آخر پر دو مہینوں کی تنخواہ کے مطابق بونس بھی دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان بینکوں میں کام کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سودی بینکوں میں کام کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سو کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ وہ سب (گناہ میں) برابر ہیں اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی "صحیح" میں روایت کیا ہے اور پھر بینکوں میں کام کرنے کی صورت میں گناہ اور ظلم کے کام میں تعاون بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى النِّبْرِ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدہ ۲/۵)

"نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔"



315 صفحہ

محدث فتویٰ